

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن

جامعہ ملیہ اسلامیہ

15 جولائی 2020

پریس ریلیز

**کوویڈ 19 کے مد نظر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ڈینٹسٹری فیکلٹی میں ٹیلی فونک مشاورت کا ہوگا آغاز**

کوویڈ 19 وبائی بیماری کے درمیان محفوظ علاج کی فراہمی کے لئے ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی فیکلٹی آف ڈینٹسٹری (ایف او ڈی) اپنے گھر سے ٹیلیفون کے ذریعے مریضوں کو دانتوں کے بارے میں مشاورت فراہم کرے گی۔ اس سہولت سے دانتوں کے تمام مریضوں اور خاص کر بوڑھوں یا دیگر امراض میں مبتلا افراد اور کم عمر بچوں کو آسانیوں ہوں گی ، جن کو دانتوں کے علاج کے لیے باہر جانے میں خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ ان دنوں کوویڈ 19 انفیکشن کے پھیلاؤ کے پیش نظر ، اس خدمت سے مریضوں کو بڑی راحت ملے گی۔ یہ خدمات پورے ہفتے کام کے دنوں میں سوائے اتوار اور دیگر تعطیلات کے 16 جولائی 2020 سے صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک دستیاب ہوں گی ۔ اس کے لئے موبائل نمبر +91-8595842391 ہے۔ یہ نمبر واٹس ایپ پر بھی دستیاب ہے۔ اس مشاورت کے درمیان مریض واٹس ایپ پر اپنے دانتوں کی بیماری کی تصاویر بھی شیئر کرسکیں گے۔

ایف او ڈی کے ڈین ، پروفیسر سنجے سنگھ نے بتایا "ٹیلی کونسلنگ سینٹر پروفیسرز اور دانتوں کی مختلف خصوصیات کے تجربہ کار فیکلٹی ممبران فراہم کریں گے۔ ہم تمام مریضوں کو اس خدمت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ڈینٹسٹری فیکلٹی ایم ایچ آر ڈی کے این آئی آر ایف رینکنگ 2020 میں ملک کے بہترین ڈینٹل کالجوں میں 19 ویں نمبر پر ہے۔

اس سال جامعہ کی اس فیکلٹی کے بیچلر آف ڈینٹل سرجری (بی ڈی ایس) نے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمس) کے زیر اہتمام نیشنل لیول ماسٹر آف ڈینٹل سرجری (ایم ڈی ایس) داخلہ امتحان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایف او ڈی کے چار فارغ التحصیل داخلہ امتحان میں کوالیفائی ہوئے ، جن میں دوسرے ٹاپر بھی شامل ہیں ۔ اس سال جامعہ کی اس فیکلٹی کے 16 گریجویٹس نے مختلف قومی سطح کے ایم ڈی ایس انٹری امتحانات میں کامیابی حاصل کی ۔

احمد عظیم

پی ار او -میڈیا کوآرڈی